



## ٹائٹل IX کیا ہے؟

ٹائٹل IX ایک وفاقی دیوانی حقوق کا قانون ہے جو تمام شکاگو پبلک اسکولز سمیت، وفاقی فنڈنگ موصول کرنے والے کسی بھی تعلیمی پروگرام یا سرگرمی میں جنس کی بنیاد پر امتیازی سلوک کو ممنوع قرار دیتا ہے۔

ہر طالب علم کو اسکول آنے اور جنسی امتیاز اور جنسی بدعملی سے پاک ماحول میں تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے، بشمول:

- |   |   |
|---|---|
| <p><b>جنسی بدعملی</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• جنسی ہراسانی، دست درازی یا بدسلوکی بہلانا</li> <li>• معاشرے میں تشدد</li> <li>• نامناسب لمس</li> <li>• جنسی نوعیت کی الیکٹرانک ریکارڈنگ</li> </ul> | <p><b>صنفی شناخت یا اظہار</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• پر مبنی امتیازی سلوک</li> <li>• حمل یا حمل سے متعلق طبی کیفیت</li> <li>• وضع حمل</li> <li>• جنسی رجحانگ</li> </ul> |
|---|---|

## اگر آپ ان رویوں یا ان سے ملتے جلتے رویوں سے واقف ہیں تو مدد دستیاب ہے۔

میرے سابق نے میری نجی تصویریں شیئر کیں اور مجھے نہیں بتا کہ کیا کیا جائے۔

میرے اہم دیگر فرد نے مجھے تکلیف پہنچانے کی دھمکی دی اور اب مجھے اسکول آنے میں ڈر لگتا ہے۔

میرا دوست مجھے ہمیشہ ایسے انداز میں چھوتا ہے جو مجھے پسند نہیں ہے۔

اسکول میں ایک بڑا لڑکا مجھے ٹیکسٹ کرتا اور مجھے تہائف دیتا رہتا ہے۔

میرا کوچ مجھے گلے لگانا ہے اور میری ظاہری ہیئت کی ستائش کرتا ہے، اور اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔



## طلبہ جنسی بدعملی کی

## رپورٹ کس طرح

## کر سکتے ہیں

اگر جنسی بدعملی کے بارے میں آپ کو تشویشات لاحق ہوں تو آپ یوں کر سکتے ہیں کہ:

### CPS کو رپورٹ کریں

آفس آف اسٹوڈنٹ پروٹیکشنز اور ٹائٹل IX (OSP)

کال کریں 773-535-4400

OSP آپ کی رپورٹ سننے، تفتیش کرنے، اور اسکول میں حفاظتی اقدامات تخلیق کرنے کے لیے آپ کے ساتھ کام کرے گا۔ OSP پولیس کو رپورٹ کرنے یا مشاورت جیسے دیگر تعاون حاصل کرنے کے بارے میں رہنمائی بھی فراہم کر سکتا ہے۔

### آفس آف انسپکٹر جنرل

(Office of the Inspector General, OIG)

کال کریں 833-TELL-CPS (833-835-5277)

اسکول میں آپ جس عمل، رضاکاران اور دیگر بالغ افراد سے ملتے ہیں ان پر مشتمل جنسی بدعملی اور ہراسانی کی OIG تفتیش کرتا ہے۔

یا

### خفیہ تعاون حاصل کریں

شکاگو کرائسس ہاٹ لائن

کال کریں 888-293-2080

ریپ کرائسس ہاٹ لائن جنسی تشدد کے متاثرین اور ان کے نگراںوں کو فوری تعاون، بحرائی مداخلت اور سٹی آف شکاگو اور نواحی بستنیوں کے لیے حوالے فراہم کرتی ہے۔

## وسائل

ہم آپ کی مدد کے لیے حاضر ہیں۔

### CPS کو رپورٹ کریں

آفس آف اسٹوڈنٹ پروٹیکشنز اور ٹائٹل IX (OSP) کال کریں 773-535-4400

OSP آپ کی رپورٹ سننے، تفتیش کرنے، اور اسکول میں حفاظتی اقدامات تخلیق کرنے کے لیے آپ کے ساتھ کام کرے گا۔ OSP پولیس کو رپورٹ کرنے یا مشاورت جیسے دیگر تعاون حاصل کرنے کے بارے میں رہنمائی بھی فراہم کر سکتا ہے۔

### آفس آف انسپیکٹر جنرل (Office of the Inspector General, OIG)

کال کریں 833-TELL-CPS (833-835-5277)

اسکول میں آپ جس عملہ، رضاکاران اور دیگر بالغ افراد سے ملتے ہیں ان پر مشتمل جنسی بدعملی اور ہراسانی کی OIG تفتیش کرتا ہے۔

یا

### خفیہ تعاون حاصل کریں

شکاگو کرائسٹس ہاٹ لائن کال کریں 888-293-2080

ریپ کرائسٹس ہاٹ لائن جنسی تشدد کے متاثرین اور ان کے نگرانوں کو فوری تعاون، بحرائی مداخلت اور سٹی آف شکاگو اور نواحی ہسپتالوں کے لیے حوالے فراہم کرتی ہے۔

## جاننے لائق اہم باتیں

### 1 ٹائٹل IX کے تحت آپ کے حقوق:

- جنسی امتیاز اور جنسی بدعملی سے پاک تعلیمی ماحول کا حق۔
- جنسی امتیاز، ہراسانی یا جنسی غلط برتاؤ، بشمول صنفی شناخت یا اظہار، حمل یا حمل سے متعلق طبی کیفیت، وضع حمل، جنسی رجحان، جنسی ہراسانی، دست درازی، یا بدسلوکی، پہلانا، معاشقے میں تشدد، اور/یا غیر مناسب لمس یا جنسی نوعیت کی الیکٹرانک ریکارڈنگز کی بنیاد پر امتیازی سلوک کے الزامات کی رپورٹ کرنے کا حق۔
- اپنے حقوق بروئے کار لانے پر انتقامی کارروائی سے پاک رہنے کا حق۔

### 2 جنسی میل جول اور تعلقات میں، آپ مستحق ہیں:

- **منظوری۔** اس کا مطلب یہ ہے کہ جنسی میل جول ہیں:
- **باخبر۔** کوئی فرد لازمی طور پر سرگرمی سے باخبر ہو اور اسے سمجھتا ہو؛
- **فعال۔** منع نہیں کرنے کا مطلب ہاں نہیں ہوتا ہے؛ نہیں کا مطلب نہیں ہوتا ہے۔ رکنے کا مطلب رکنا ہوتا ہے۔
- **رضاکارانہ۔** دباؤ، ساز باز اور دھمکی کے بغیر آزادانہ طور پر دی گئی ہو؛
- **مخصوص۔** منظوری ہر بار، ہر عمل کے لیے ہونا ضروری ہے اور کبھی بھی واپس لی جا سکتی ہے۔

اگر کوئی شخص رضاکارانہ یا غیر رضاکارانہ منشیات یا الکحل کے استعمال کے زیر اثر ہو؛ یا انہیں ایسے جسمانی، نشوونما سے متعلق یا شعوری اختلافات درپیش ہوں جو انہیں پیش آمدہ معاملے کو سمجھنے میں ممانع ہوں تو وہ فرد منظوری نہیں دے سکتا۔

**ایک صحت مند رشتہ۔** ایک ایسا رشتہ جس میں آپ مساوی ہوں اور ہمیشہ احترام کا برتاؤ کیا جاتا ہو۔ ایک صحت مند رشتے میں کبھی بھی تشدد، خوف یا طاقت کا دخل نہیں ہوتا ہے۔

### 3 دوست کی مدد کرنا: بات سنیں، مہربان رہیں، مربوط کریں

کسی دوست کو یا جس کا آپ خیال رکھتے ہیں اسے اگر جنسی تشدد کا سامنا ہو رہا ہو تو یہ جاننا مشکل ہو سکتا ہے کہ کیا کیا جائے۔ یہ کچھ تجاویز ہیں:

- **بات سنیں:** ہر کسی کا تجربہ درست ہوتا ہے۔ "میں آپ کی بات سن رہا ہوں"
- **مہربان رہیں:** آپ جو بھی حمایت اور اطمینان فراہم کر سکتے ہوں فراہم کریں۔ "میں آپ کی حمایت کرتا ہوں"
- **مربوط کریں:** وسائل کے بارے میں جانیں اور اپنے دوست کو بتائیں۔ "آپ کے پاس اختیارات ہیں"